



سوال

(300) عیسائی کو سلام کہنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

عیسائی کو سلام کہنے کا اسلام میں کیا طریقہ ہے؟ (بشارت، والٹن لاہور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کفار و مشرکین سے سلام کے بارے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"یہود و نصاریٰ کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو اور جب تم ان سے کسی رستے میں ملو تو انہیں اس کی طرف (سے گزرنے پر) مجبور کرو جو زیادہ تنگ ہو۔" (صحیح مسلم)

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ کو پہلے سلام نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں ان کی تعظیم و قدر ہوتی ہے اور عزت و شرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لئے ہے۔ جیسا کہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں ہے۔

اور یہود و نصاریٰ سے اس وقت تک جنگ میں ہے جب تک وہ جزیہ و ٹیکس دے کر ذلیل نہ ہو جائیں۔ (سورۃ التوبہ: 29)

اسی ذلت کا احساس پیدا کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر رستے میں ان کفار سے ملاقات ہو جائے تو ان کے لئے کھلا راستہ نہ چھوڑو بلکہ انہیں تنگ رستے کی طرف گزرنے پر مجبور کرو۔ یہودی و عیسائی سلام کہتے وقت السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم اکثر کہتے ہیں اور السلام علیکم کا معنی ہے تم پر موت ہو یہ دعا کی بجائے بد دعا ہے تو یہ جب اس طرح سلام کہیں تو انہیں "وعلیکم" کہنا چاہیے جیسا کہ صحیح البخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ لہذا عیسائی ہو یا یہودی اسے سلام میں پہل نہ کریں اگر وہ سلام کہے تو وہ علیکم کہیں۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب



کتاب الادب، صفحہ: 390

محدث فتویٰ